

حضرت آیت اللہ العظمی سید حکیم (مد ظلہ) نے محققین کو امام حسین علیہ السلام کے قیام ، قربانی اور دین پر ثابت قدم رہنے کے بارے میں بحث و گفتگو کرنے کی دعوت دی ، اور یہ بھی فرمایا کہ اس بارے میں بھی قلم اٹھایا جائے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کو زندہ رکھنے

مرجع جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید محمد سعید حکیم ( دام ظلہ) نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں محققین کو بحث و گفتگو کی دعوت دی ، اور آپ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی ، حق پر لٹنے پر ، اور صبر و استقامت کے بارے میں بھی لیٹچیرز لکھا جائے اور اسی کی وجہ سے مومنین دشمن کے ہجوم سے بچنے کے اثرات کو بھی قلم سے بیان کیا جائے ، اور جو لوگ اس راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں وہ کس ذلت اور خواری سے زمین بوس ہو جاتے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے ان خیالات کا اظہار آپ نے بغداد کے مستنصریہ یونیورسٹی کے آرٹس آف فیکلٹی کے وفد جو اپنے دسویں الطف کانفرنس برگزار کر رہے ہیں سے ملاقات کے دوران فرمایا تھا

اسی طرح آپ نے حضرت حسینی کی حقیقت ، اس کے عقاید پر لو اور اس کے بڑے بڑے اہل ذمہ کے بارے میں بحث و گفتگو کرنے کی دعوت دی ، تا کہ دوسروں کو اس کی حقیقت کا علم ہو جائے ، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ کیوں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے پیروکار عاشورا کے مجالس اور زیارت اربعین کو اہمیت دیتے ہیں ، کیونکہ انہی مجالس نے دین حنیف کی حفاظت کی ہے اور اس میں نئی روح پھونکی ہے، اور

دشمنوں کے بڑی قوتوں کے سامنے استقامت اور استحکام دیکھایا ، اور اسی قیام کی وجہ سے عقیدت اور راہ و روش میں دینی ثقافت چھایا ، یہ قیام ہمیں دوسروں کے ثقافت میں ضم ہونے کے بجائے دینی ثقافت کی طرف پلٹ آنے کا درس دیتا ہے

اس بابرکت ملاقات کے آخر میں آیت اللہ العظمیٰ حکیم (مدظلہ) نے اس طرح کے کانفرنسوں کے انعقاد پر ان کے کوششوں کو سراہا ، اور خداوند متعال کے حضور میں دعا کی کہ اس عظیم کام میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے تا کہ آئندہ کے نسلوں کو اصل اسلامی تربیت دینے کی ذمہ داری کو احسن وجہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے